



مدثر نذر کا مدتِ ملازمت میں توسیع نہ لینے کا فیصلہ

لاہور، 8 دسمبر 2019:

سابق کرکٹر مدثر نذر نے 31 مئی 2020 کو ختم ہونے والے کنٹریکٹ میں توسیع نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ڈائریکٹر اکیڈمیز پی سی بی کے عہدے پر کام کرنے والے سابق کرکٹر نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو اپنے فیصلے سے متعلق آگاہ کر دیا ہے۔

مدثر نذر نے یکم جون 2016 میں پی سی بی کے ڈائریکٹر اکیڈمیز کا عہدہ سنبھالا تھا۔ ابتدائی طور پر تین سالہ کنٹریکٹ مکمل ہونے کے بعد رواں سال مدثر نذر کے کنٹریکٹ میں ایک سال کی توسیع کی گئی تھی۔

مدثر نذر:

مدثر نذر کا کہنا ہے کہ دبئی میں آئی سی سی اکیڈمی کے ساتھ کام کرنے کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ میں بطور ڈائریکٹر اکیڈمیز کام کرنا ایک اطمینان بخش لمحہ رہا۔ سابق کرکٹر نے کہا کہ انہوں نے پہلے سے ہی تین سال تک کام کرنے کا سوچ رکھا تھا تاہم دوستوں کی درخواست پر مزید ایک سال کی توسیع قبول کر لی۔

مدثر نذر نے کہا کہ اب وہ اہل خانہ کے ساتھ وقت گزارنے واپس برطانیہ جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں اپنے گزرے ہوئے دور پر مطمئن ہیں، اس دوران نیشنل کرکٹ اکیڈمی نے پاکستان کو کئی کرکٹرز دیئے اور ابھی بیشتر کھلاڑی قومی کرکٹ کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں۔

مدثر نذر نے کہا کہ انڈر 13، انڈر 16 اور انڈر 19 ٹیلنٹ ہنٹ پروگرامز کے ذریعے وہ کرکٹ کو ملک کے کونے کونے تک پہنچانے میں کامیاب رہے۔

انہوں نے کہا کہ ابھی ان کے کنٹریکٹ میں کچھ عرصہ باقی ہے تاہم اس دوران پی سی بی کو اس عہدے کے لیے متبادل ڈھونڈنے کا موقع مل جائے گا۔

سابق کرکٹر نے کہا کہ وہ اس دوران اپنے اہل خانہ ، دوستوں اور ساتھیوں کے تعاون اور مدد کے مشکور ہیں۔

وسیم خان، چیف ایگزیکٹو پی سی بی:

چیف ایگزیکٹو پی سی بی وسیم خان کا کہنا ہے کہ ہم مدثر نذر کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ کھلاڑیوں کی ڈویلپمنٹ کو مدنظر رکھا جائے تو مدثر نذر پاکستان کرکٹ بورڈ کا اہم حصہ رہے، بطور ڈائریکٹر اکیڈمیز ان کی خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔

وسیم خان کا کہنا ہے کہ مدثر نذر نے ہمیشہ پاکستان کی کرکٹ کو آگے رکھا، انہوں نے ڈائریکٹر اکیڈمیز کے عہدے کے ساتھ ساتھ اپنے تجربے سے پاکستان کرکٹ بورڈ کو اہم مشوروں سے نوازا۔ انہوں نے کہا کہ تبدیلی ناگزیر ہے اور ہم ایک مختلف سمت میں آگے بڑھیں گے۔

وسیم خان نے کہا کہ وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے مدثر نذر کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔

پاکستان کرکٹ بورڈ مدثر نذر کے متبادل کا فیصلہ جلد کر لے گا۔

– ENDS –

Media contact:

Ibrahim Badees Muhammad

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: ibrahim.badees@pcb.com.pk

M: +92 (0) 345 474 3486

W: www.pcb.com.pk

ABOUT THE PCB

The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan. Its goal is to work in partnership with its stakeholders to promote, develop and grow the game throughout the country.

The PCB's purpose is to maintain and enhance the reputation and integrity of the game, fostering excellence and upholding the spirit of the game. The PCB selects junior and senior national men's and women's cricket teams to represent the country on the global stage, runs high performance cricket centres across the country and plans and organises domestic competitions and international bi-lateral series.

The PCB is committed to developing ground and facility infrastructure, monitoring the implementation of playing codes and regulations, and supporting the game at every level through its high quality training provision for officials and coaches.

Commercial Partners



www.pcb.com.pk ●
@therealpcb ●
@PakistanCricketBoard ●
@PakistanCricketOfficial ●
@therealpcb ●

PCB Headquarters
Gaddafi Stadium
Ferozpur Road, Lahore
Pakistan, PO Box 54000
T: +92 42 3571 7231-4